

# امدادی رضاکارانہ واپسی، دوبارہ انضمام اور کھلے مرکز (مہمان خانہ) میں ہوسٹنگ اٹیکا میں (AVRR/OCAVRR)

اُردُو  
URDU

## کیا آپ وطن [گھر] واپس جانے کا سوچ رہے ہیں؟

### آئی او ایم آپ کی مدد کر سکتا ہے! IOM

اگر آپ یونان میں مزید نہیں رہنا چاہتے تو اسے وی آر آر کے لئے درخواست دے سکتے ہیں، بشمول مندرجہ ذیل حالات میں:

- آپ کے پاس یونان میں رہنے کے لئے قانونی دستاویزات نہیں ہیں۔
- آپ کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کردی گئی ہے۔
- آپ اپنی سیاسی پناہ کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔

آئی او ایم آپ کی ضروریات کے مطابق ، آپ کی مدد کر سکتا ہے، بذریعہ: IOM

- آپ کے اپنے ملک کی صورتحال، پروگرام میں شامل فوائد اور امداد کے بارے میں انفرادی طور پر معلومات فراہم کرنا۔
- آپ کے سفری دستاویزات کے اجراء میں معاونت فراہم کرنا۔
- ہوائی جہاز کے ذریعہ اپنے آبائی ملک میں نقل و حمل کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ ، اگر ضرورت ہو تو ملک کے اندر بھی نقل و حمل کا بندوبست کرنا۔
- یونان سے روانگی کیلئے ہوائی اڈے پر معاونت، کرنا، اگر ضرورت ہو تو، ٹرانزٹ ممالک میں اور اپنے ملک آمد کے وقت معاونت فراہم کرنا۔
- آپ کو ایک دفعہ نقد گرانٹ فراہم کرنا، اگر قابل اطلاق ہو تو، کتبہ کے افراد کو جو آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔

اگر آپ کسی خاص خطرہ یا مخصوص ضرورتوں کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں (مثلاً صحت کی ضروریات کی وجہ سے یا آپ اکیلے نابالغ بچے ہیں)، تو ہم آپ کی واپسی کے عمل کے تمام مراحل پر ذاتی نوعیت کی مدد فراہم کریں گے۔ اہلیت کے مخصوص معیار پر منحصر ہے ، آپ کو اپنے ملک میں عمومی طور پر دوبارہ ملحق امداد سے فائدہ ہوسکتا ہے۔ اس امداد میں چھوٹا کاروبار قائم کرنا ، تعلیم ، عارضی رہائشی امداد ، پیشہ ورانہ تربیت ، مواد اور طبی مدد شامل ہوسکتی ہے۔

آپ پروگرام میں طریقہ کار کے دوران کسی بھی وقت ، پروگرام چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔

آئی او ایم سے کسی بھی ذمہ داری کے بغیر رابطہ کریں، تمام امداد بلا معاوضہ ہے۔ IOM